



## سوال

(132) کیا خطبہ کے دوران میں مسواک کی جا سکتی ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسواک کے استعمال کی تاکید کس وقت ہے اور نماز کا انتظار کرنے والے اور خطبہ سننے والے کے لیے مسواک کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سو کراٹھتے وقت مسواک کرنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، نیز گھر میں داخل ہوتے وقت، وضو کے دوران کئی کرتے وقت اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت بھی مسواک کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ خطبہ سننے کے دوران مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ خطبہ سننے سے توجہ ہٹا دینے کا باعث ہوگی۔ اگر اونگھ وغیرہ طاری ہو تو اونگھ دور کرنے کے لیے مسواک کر سکتا ہے۔ [1]

[1] فضیلۃ الشیخ المفتی رحمہ اللہ نے اونگھ دور کرنے کے لیے مسواک کرنے کی کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ ہمارے محدود علم کے مطابق غالباً کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ جمعہ کے دن حالت خطبہ میں اگر کسی شخص کو ایک جگہ اونگھ آجائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جگہ تبدیل کر لے اور اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (( اذْأَنْعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ عَنِ مَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ )) (جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب فَمِنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْهَ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَجْلِسِهِ : حدیث: ۵۲۶، مسند احمد: ۱۳۵/۲) ”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اونگھنے لگے تو وہ اپنی اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔“ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب جمعہ کے دن کوئی شخص مسجد میں اونگھنے لگے تو جگہ تبدیل کر لے بشرطیکہ جگہ موجود ہو اور کسی کو پھلانگنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ جگہ تبدیل کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے پینڈاڑ جاتی ہے اور اونگھ نہیں آتی۔ (الکتاب الام: ۳۲/۱۰: نیز ملاحظہ فرمائیں، المغنی لابن قدامہ: ۳/۲۳۵-۲۳۶)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

## فتاویٰ ارکان اسلام

**عقائد کے مسائل : صفحہ 197**

محدث فتویٰ